

## Secondary Arabic (235)

### یونٹ: 1 سبق نمبر 6: فعل: اقسام اور مثالیں

سبق کا نام	زبان کی مہارتیں			سبق نمبر
سبق: فعل: اقسام اور مثالیں	سننا/بولنا	پڑھنا	لکھنا	6
مختلف اقسام کے تمام صیغوں کو جاننا اور ان کا استعمال	عربی افعال کی مختلف قسموں کو پڑھنا اور سننا	ماضی، مضارع، امر اور نہی افعال کو پڑھنا	مختلف اقسام کے افعال کو لکھنا	
زندگی کی عملی کام/سرگرمیاں/مہارتیں	اصناف/قواعد/صنائع بدائع/اسلوب	● ثلاثی افعال ● اس کے تمام صیغے		

#### سبق کا خلاصہ:

- فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا کسی خاص زمانہ ماضی، حال یا مستقبل بھی معلوم ہو۔
- فعل کی چار قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہی۔
- فعل ماضی سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے۔ جیسے: كَتَبَ (اس نے لکھا)، ذَهَبَ (وہ چلا گیا)
- فعل ماضی تین حروف کے ہوتے ہیں تو ثلاثی مجرد کہلاتے۔ جیسے: ذَهَبَ، كَتَبَ اور جب ان تین اصلی کے علاوہ ایک حرف زائد ہوتا ہے تو ثلاثی مزید فیہ کہلاتا ہے جیسے: اَكْرَمَ (اس نے تعظیم کی)، تَعَلَّمَ (اس نے کہا)
- فعل ماضی کے چودہ (14) صیغے ہوتے ہیں۔
- فعل مضارع وہ فعل ہے جو موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتائے جیسے: يَكْتُبُ (وہ لکھتا ہے یا لکھے گا) يَذْهَبُ (وہ جاتا ہے یا جاتا رہے گا)
- فعل کی معنی کے اطلاق سے دو قسمیں ہیں: فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم جس میں صرف فاعل کی ضرورت ہو۔ جیسے: ذَهَبَ الْوَلَدُ (لڑکا گیا)
- فعل متعدی جس میں فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو جیسے: كَتَبَ الْوَلَدُ رِسَالَةً (لڑکے نے ایک خط لکھا)
- مثبت اور منفی بھی اور فعل کی قسمیں ہیں۔ فعل ماضی بیئت جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو۔ جیسے: كَتَبَ (اس نے لکھا) ذَهَبَ (وہ چلا گیا)
- فعل ماضی منفی جس سے کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا معلوم ہو۔ جیسے: مَا كَتَبَ (اس نے نہیں لکھا)، مَا ذَهَبَ (وہ نہیں گیا)

- اسی طرح مضارع میں بھی مثبت اور منفی ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ فعل مضارع منفی میں 'ما' کسی جگہ 'لا' لگا یا جاتا ہے۔ جیسے: لا یکتُنبُ، لا یذہبُ۔
- معروف اور مجہول بھی فعل کے اقسام ہیں۔
- فعل ماضی معروف: اگر فعل ماضی کا فاعل معلوم ہو تو اسے فعل ماضی معروف کہتے ہیں۔ جیسے: کَتَبَ حامدٌ (حامد نے لکھا)
- فعل ماضی مجہول: وہ فعل ہے جس میں فاعل معلوم نہ ہو۔ جیسے: ضُربَ حامدٌ (حامد کی پٹائی ہو گئی)
- فعل مضارع کے بھی معروف اور مجہول ہوتے ہیں۔
- فعل امر: وہ ہے جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا حکم دیا جائے۔ جیسے: اکتُبْ (پڑھو)، اذہبْ (چلے جاؤ) فعل امر کے کل چھ صیغے ہوتے ہیں۔
- فعل نہی: وہ ہے جس میں کسی شخص کو کام کرنے سے روکا جائے۔ جیسے: لا تکتُبْ (مت لکھو) لا تذہبْ (مت جاؤ)

### فعل کے بارے میں:

- فعل کی چار قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر، نہی
- لازم اور متعدی بھی فعل کی قسمیں ہیں
- ثلاثی مجرد اور مزید فیہ فعل میں حروف کی تعداد سے متعلق ہیں
- معروف اور مجہول بھی فعل کی قسمیں جو فعل ماضی اور فعل مضارع سے متعلق ہیں
- مثبت اور منفی کام کے ہونے، کرنے یا نہ ہونے اور نہ کرنے سے متعلق ہیں

### خاص باتیں:

- فعل ماضی اور مضارع کے چودہ۔ چودہ (14-14) صیغے ہوتے ہیں۔
- فعل امر میں صرف چھ صیغے ہوتے ہیں۔

### سمجھنے کی بات:

- فعل کی مختلف قسمیں ہیں جو اس کے معنی اور اس کی شکل سے تعلق رکھتی ہیں
- فعل کے سبھی صیغوں کو اچھی طرح سمجھنا اور انہیں یاد کرنا بے حد ضروری ہے

### غور کرنے کی باتیں:

- فعل مجہول صرف متعدی فعل کا ہی ہوتا ہے
- فعل مجہول جب جملے میں استعمال ہوتا ہے تو اس جملے میں واقع ہونے والے فاعل کو نائب الفاعل کہتے ہیں

- جب معروف جملے کو مجہول میں تبدیل کیا جاتا ہے تو اس جملے کا فاعل محذوف ہوجاتا ہے اور اس کی جگہ مفعول بہ آجاتا ہے جیسے: كَتَبَ حَامِدٌ رِسَالَةً (حامد نے ایک خط لکھا) مجہول جملہ كُتِبَتْ رِسَالَةٌ (خط لکھا گیا) یہاں 'رِسَالَةٌ' نائب الفاعل ہے۔

## اپنی جانچ آپ کیجیے:

- 1- متن پر مبنی سوال:  
● صحیح جواب پر (✓) کا نشان لگائیے:  
(الف) ثلاثی مجرد میں تین سے زائد حروف ہوتے ہیں  
(ب) مجہول جملے میں نائب الفاعل ہوتا ہے  
(ج) فعل ماضی کے پندرہ صیغے ہوتے ہیں  
(د) فعل مضارع منفی پر 'ما' مانگتا ہے
- 2- مختصر ترین جواب والا سوال:  
درج ذیل افعال سے فعل امر بنائیں  
ذَهَبَ، كَتَبَ، ضَرَبَ
- 3- مختصر جواب والا سوال:  
ثلاثی مزید فیہ کیا ہے؟ اس کی تین مثالیں لکھیں۔
- 4- طویل جواب والا سوال:  
نہی اور نفی کے فرق کو مثالوں سے واضح کریں